

ہولی گرو اسکول نیوز لیٹر



8 جولائی 2024



[/www.holly-grove.lancs.sch.uk](http://www.holly-grove.lancs.sch.uk) / www.facebook.com



ہمیں امید ہے کہ آپ کا ویک اینڈ بہت اچھا گزرا!



اگر آپ نیوز لیٹر پر کوئی خبر شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فوٹو وغیرہ کو newsletter@holly-grove.lancs.sch.uk پر ای میل کر سکتے ہیں۔



THANK YOU!



ڈان لیتھم اور اس کے شوہر اسٹیفن کا بہت شکریہ۔ ڈان نے حال ہی میں اپنی 60 ویں سالگرہ منائی اور تحائف کے بجائے، ڈان نے جارحیا فوری ہٹر فلائی فنڈ میں عطیات مانگے۔ اسٹیفن لیتھم جو کمپنی کارڈ بورڈ باکس کمپنی کے لیے کام کرتی ہے، اس کے بعد ڈان کی جمع کردہ رقم کو میچ نے فنڈ کیا۔

ڈان اور اسٹیفن جمعہ کو اسکول آئے اور چیریٹی کو £577.60 کا چیک پیش کیا۔ ڈان اور اسٹیفن کا شکریہ۔

ہولی گرو الیکشن

2024



ہماری 2024/2025 اسکول ٹیم کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے موجودہ سال 5 کے کچھ شاگرد ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں انہیں نئے امید نواز، امید گرلز اور پریفیکٹس بننے کے لیے ووٹ کیوں دینا چاہیے۔



SUPER!



سیموئیل نئے کھانے آزمانے
میں واقعی بہادر رہا ہے
اس لیے اپنے کھانا پکانے کے
سبق میں کھیرے کا مزہ
چکھا اور گھریلو پیزا
آزمایا۔


حیرت انگیز سیموئیل!

WOW!



AMAZING

آرچی کو اپنی
ضروریات کرنے
درخواست کرنے
کے لیے اپنی
کمیونیکیشن
سٹرپ کو مستقل
طور پر استعمال
کرنے پر ویل دن۔




تاریخ کے دوران اس کے
شانداز کردار ادا کرنے پر
ہمیں منی پر بہت فخر ہے۔
منی دی اینگلو سیکسنز اور
ان کے نظام انصاف کے
بارے میں سیکھ رہی ہے۔




کیٹی کی کلاس نے گزشتہ
ہفتے کلیتھرو فائر اسٹیشن
پر بہت اچھا وقت گزارا۔ وہ
بہت خوش قسمت تھے کہ
وہ فائر انجن میں بیٹھنے
اور آگ بجھانے کے کچھ اہم
آلات کو دریافت کرنے کے
قابل تھے۔

ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے
بہت مزہ کیا تھا!





100 کلب



ہمارے جولائی اور اگست 100 کلب کے فاتحین کے لیے شہادتیں۔ چیک پوسٹ میں بھیجیں۔

جولائی

نمبر 99 - اینجی مینی 50£ نمبر 18 - ایلپوٹ میک گینس 25£

اگست

نمبر 32 - کونر موفاٹ 150£ نمبر 49 - باربرا آئزکس 50£



جشن اسمبلی



آپ کو دعوت دی جاتی ہے!

ہم آپ کو 15 جولائی بروز پیر کو ایک خصوصی اسمبلی کے لیے اسکول میں مدعو کرنا چاہیں گے جو سال بھر میں ہمارے شاگرد کی کامیابیوں کا جشن منائے گی۔

یہ آڈیٹوریئم میں منعقد ہوگا اور دوپہر 1.30 بجے شروع ہوگا۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہلے پہنچیں کہ آپ اسمبلی شروع ہونے سے پہلے بیٹھے ہیں۔

اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ کو کتنی سیٹیں درکار ہیں تو برائے مہربانی اسکول اسپائیڈر کے ذریعے جواب دیں۔

آپ سے ملاقات کا انتظار رہے گا!





میری بیریاں

بدقسمتی سے، عملے کی تربیت اور آئندہ نئے
تعلیمی سال کی تیاری کی وجہ سے مدت کے
آخری ہفتے (15، 16 اور 18 جولائی) کو کوئی
میری بیریز نہیں ہوگی۔

بچوں کو عام وقت پر جمع کرنے یا ٹرانسپورٹ پر گھر آنے کی ضرورت ہوگی۔

Important Dates

بدھ 10 جولائی کھلی صبح

جمعہ 12 جولائی Yr6 چھٹیوں کی شام

پیر 15 جولائی ایوارڈ اسمبلی

منگل 16 جولائی Nibble and Natter

جمعہ 19 جولائی اسکول سہ ماہی کے لیے بند ہو جاتا ہے۔



عملے کی ترقی

10 جولائی بروز بدھ
شام 3 بجے تا 4:30 بجے



کلاس ٹیم میٹنگز

آپ اسکول کی ویب سائٹ پر ہماری تمام
پالیسیوں اور رازداری کے نوٹس تک رسائی
حاصل کر سکتے ہیں۔

www.holly-grove.lancs.sch.uk

ہولی گرو ہیروز



آنزلنگ کی کلاس - مارتھا

کیٹی کی کلاس - لوسی

سامنتھا کی کلاس - Tia

ربیکا کی کلاس - فن

لورا کی کلاس - ایشلے

ڈینیئل / کونور کی کلاس - چارلی

جولی کی کلاس - تھیو

مائیکل کی کلاس - Bhryss

کورٹنی کی کلاس - منی

جوش کی کلاس - آرچی

الیکس کی کلاس - Szymon

لیپی کی کلاس - سیمونل



HAPPY BIRTHDAY



عملہ

Moxy

Leah.G جارجیا لیذا

بچے

Kye.C

Jump Back Up July 2024

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

1 Take a small step to help overcome a problem or worry

2 Adopt a growth mindset. Change "I can't" into "I can't...yet"

3 Be willing to ask for help when you need it

4 Find something to look forward to today

5 Get the basics right: eat well, exercise and go to bed on time

6 Pause, breathe and feel your feet firmly on the ground

7 Shift your mood by doing something you really enjoy

8 Avoid saying "must" or "should" to yourself today

9 Put a problem in perspective by seeing the bigger picture

10 Reach out to someone you trust and share your feelings with them

11 Look for something positive in a difficult situation

12 Write your worries down and save them for a specific 'worry time'

13 Challenge negative thoughts. Find an alternative interpretation

14 Get outside and move to help clear your head

15 Set yourself an achievable goal and take the first step

16 Find fun ways to distract yourself from unhelpful thoughts

17 Use one of your strengths to overcome a challenge today

18 Let go of the small stuff and focus on the things that matter

19 If you can't change it, change the way you think about it

20 When things go wrong, pause and be kind to yourself

21 Identify what helped you get through a tough time in your life

22 Find 3 things you feel hopeful about and write them down

23 Remember that all feelings and situations pass in time

24 Choose to see something good about what has gone wrong

25 Notice when you are feeling judgmental and be kind instead

26 Catch yourself over-reacting and take a deep breath



27 Write down 3 things you're grateful for (even if today was hard)

28 Think about what you can learn from a recent problem

29 Be a realistic optimist. Focus on what could go right


30 Reach out to a friend, family member or colleague for support

31 Remember we all struggle at times - it's part of being human



ACTION FOR HAPPINESS

Happier · Kinder · Together



easyfundraising
feel good shopping



Raise FREE donations for

Georgia Fourie Butterfly Fund supporting Holly Grove School

every time you shop online

Find us on easyfundraising.org.uk

www.easyfundraising.org.uk/causes/georgia-fourie-butterfly-fund/

or download the App



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Shop at over **4,000** online stores

ebay

M&S
EST. 1884

JOHN
LEWIS
& PARTNERS

Argos



Currys PCWorld

ASOS

Debenhams

150

Sainsbury's

Boden

Booking.com

JUST EAT

Boots
Let's feel good

Clarks

H&M

sky

The Works

£ Over £30 million raised

1.6 million users

130,000 causes



DID YOU

KNOW?



کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی سروسز سے 999 پر ٹیکسٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے کوئی سگنل نہ ہو یا آپ کے پاس کوئی کریڈٹ نہ ہو؟ ٹیکسٹ بھیج کر، آپ ایمرجنسی سروسز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں بغیر سنے جانے کے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنے فون کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکمل طور پر مفت ہے - بس نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

ٹیکسٹ استعمال کرتے ہوئے 999 پر رابطہ کریں: ایمرجنسی ایس ایم ایس

آپ کو اپنے فون کو استعمال کرنے سے پہلے اسے رجسٹر کرنا ہوگا۔

ہنگامی SMS ترتیب دینے کا طریقہ دیکھیں۔

1. اپنا موبائل رجسٹر کریں۔

لفظ 'رجسٹر' کو 999 پر ٹیکسٹ کریں۔

اگر آپ اپنا فون نمبر تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔

2. پیغام پڑھیں

آپ کو ایک خودکار ٹیکسٹ جواب ملے گا۔ براہ کرم یہ سب پڑھیں۔

3. پیغام کا جواب دیں۔

پیغام پڑھیں اور پھر 'ہاں' لکھ کر جواب دیں۔

4. ایک 'کامیابی' متن حاصل کریں۔

اس کے بعد آپ کو ایک متن ملے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا موبائل اب رجسٹرڈ ہے - یا اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے۔

اب آپ ٹیکسٹ کے ذریعے ایمرجنسی میں 999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ اشتراک کریں

براہ کرم بانٹیں!

Minis = 0-7
Adventurers = 4-12
Siblings also welcome to SEN exclusive sessions

23rd July - 31st August

SUMMER TIMETABLE

Tuesdays
10:00 Adventurers SEN Exclusive
11:15 Minis
12:30 Private Hire

Thursdays
10:00 Minis SEN Exclusive
11:15 Adventurers
12:30 Private Hire

Saturdays
10:15 Private Hire
11:30 Adventurers SEN Exclusive
1:00 Minis SEN Exclusive

Sundays
10:15 Private Hire
11:30 Minis SEN Exclusive
1:00 Adventurers SEN Exclusive

Extras
Bee Unique Dates
1st, 15th, 29th
August: 12:30pm
Child Action NW:
30th July 12:30pm

BEE UNIQUE ARTS

SENSATION
the sensory gym

www.sensationgym.co.uk

SUMMER PASS

Valid 23rd July - 31st August

£50 - 2 sessions per week
£70 - 3 sessions per week

**That's around half price per session!
Please DM or email to purchase your pass.**

Then to book your sessions online, please choose "Summer Pass child ticket" on your chosen day

SENSATION
the sensory gym

WWW.BOOKWHEN.COM/SENSATION

CHILDREN AND FAMILIES WELLBEING SERVICE BURNLEY INVITES YOU TO

FAMILY HUBS NETWORK

FAMILY FUN IN THE PARK

Activities for early years and primary aged children and families

Activities also taking place for young people age 12-18yrs+ delivered by the Targeted Youth Support Team

DON'T FORGET TO BRING ALONG YOUR FAMILY PICNIC

Events and activities are open to all families in Burnley and priority will be given to children eligible/ or in receipt of free schools meals.

To book your place call 01282 470707

FUN
Food + Friends

Children and Family Wellbeing Service Burnley

FAMILY HUBS NETWORK

WE'RE GOING ON A BEAR HUNT

COME AND JOIN US AT TOWNELEY PARK

TEDDY BEAR'S PICNIC (PLEASE BRING ALONG YOUR BEAR AND A FAMILY PICNIC)

ACTIVITIES FOR EARLY YEARS AND PRIMARY AGED CHILDREN AND FAMILIES

WEDNESDAY 14TH AUGUST 2024 11.00AM-3.00PM

PLEASE CALL 01282 470707 TO BOOK YOUR PLACE

Events and activities are open to all families in Burnley and priority will be given to children eligible/ or in receipt of free school meals.

FUN
Food + Friends

Children and Family Wellbeing Service Burnley

FAMILY HUBS NETWORK

CIRCUS Fun & Parade

WEDNESDAY
31ST JULY 2024
11 - 3pm

Thompson Park, Ormerod Road, Burnley, BB11 2RU.

Please call 01282 470707 to book your place

Please bring along your family picnic

ACTIVITIES FOR EARLY YEARS AND PRIMARY AGED CHILDREN AND FAMILIES'

Events and activities are open to all families in Burnley and priority will be given to children eligible or in receipt of free school meals

FUN
Food > Friends

Made with PosterMyWall.com

Burnley leisure & culture

Children and Family Wellbeing Service Burnley

FAMILY HUBS NETWORK

STOMP CHOMP & ROAR

JOIN US for
Dino Day

Support session for children and families with SEN alongside the Mental Health Support Team (MHST)

Activities for early years and primary aged children and families

Friday **23** 10am - 1pm
AUGUST

Burnley Wood Family Hub
33 Brunswick Street
Burnley
BB11 3NY

Events and activities are open to all families in Burnley and priority will be given to children eligible/or in receipt of free school meals.

FUN
Food > Friends

Please call 01282 470707 to book your place

Made with PosterMyWall.com

Children and Family Wellbeing Service Burnley

Activities suitable for Early years and Primary aged children 0-11

Burnley Together

Dress Up Day

FAMILY HUBS NETWORK

Events and activities are open to all families in Burnley and priority will be given to children eligible/or in receipt of free school meals.

Tuesday 20th August Free Fun Session 10am - 2pm

**VENUE:
DOWN TOWN
(ABOVE NEW LOOK)**

ACTIVITIES FOR EARLY YEARS AND PRIMARY AGED CHILDREN AND FAMILIES

Please call 01282 470707 to book your place

FUN
Food > Friends

Made with PosterMyWall.com

Children and Family Wellbeing Service Burnley

FAMILY HUBS NETWORK

End of Summer PARTY

IN THE **Park**

Activities for early years and primary aged children and families

Please bring along a family picnic

Wednesday 28th August 11am-3pm
Towneley Park, Burnley

Please call 01282 470707 to book a place

Burnley leisure & culture

Made with PosterMyWall.com

Burnley

Long Term Plan

You spoke, we listened.

**You told us what you wanted
and how you would invest the
£20 million in Burnley**

**We have some ideas
based on your feedback –
we need your help to make sure the
money is spent in the best way**

**Scan the QR code
to let us know what you think**



burnleylongtermplan.co.uk



PUPIL HOLIDAY DATES – 2023 / 2024

Autumn Term 2023

Re-open **Wednesday 6 September 2023**

Half Term **5 days** **Monday 23 October**
Friday 27 October (Inclusive)

Re-open **Monday 30 October**

Christmas - Closure after school on **Friday 22 December 2023**

Spring Term 2024

Re-open **Monday 8 January 2024**

Half Term **5 days** **Monday 12 February to**
Monday 19 February (Inclusive)

Re-open **Tuesday 20 February**

Easter - Closure after school on **Thursday 28 March 2024**

Summer Term 2024

Re-open **Monday 15 April 2024**

May Day **1 day** **Monday 6 May**

Half Term **5 days** **Monday 27 May to**
Friday 31 May (Inclusive)

Re-open **Monday 3 June**

Summer – Closure after school on **Friday 19 July 2024**